



اس نیوز لیٹر کا پرنٹ ہرگز نہ نکالیے، کیونکہ اس میں تصاویر ہیں اور جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالنا شرعاً جائز نہیں۔

حضرت لقمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی اپنے بیٹے کو نصیحت

نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بیشک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ (پارہ 21، سورہ لقمان، آیت 17)

امیر اہلسنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام



طلبہ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل میں قوم کی باگ ڈور یہی سنبھالتے ہیں، اگر ان کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے۔

سی۔ ای۔ او (دارالمدینہ)



محترم والدین / سرپرست، دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کی جانب سے جاری ہونے والے پہلے نیوز لیٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز لیٹر ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم آپ کو دارالمدینہ میں ہونے والی مختلف سرگرمیوں، خبروں، مستقبل میں ہونے والے کاموں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ امید ہے آپ مجلس دارالمدینہ کی اس کاوش سے کئی فوائد حاصل کر سکیں گے۔

دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمیاں



ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ گزشتہ دنوں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں اسلامک سمرکیمپ منعقد ہوا جس میں دارالمدینہ کے علاوہ دیگر کئی اسکولز کے طلبہ و طالبات نے بوائز اینڈ گریڈرز کیمپسز میں الگ الگ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس سمرکیمپ میں کلاس 4 تا میٹرک کے طلبہ کو ضروری دینی علوم سے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ اسی طرح مذکورہ تمام کلاسز کے لیے انگلش لینگویج کورس کا سلسلہ ہوا تاکہ طلبہ روانی کے ساتھ انگلش بولنا سیکھ سکیں نیز ان کی تحریری صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو۔ کمپیوٹر اسکولز میں اضافے کے لیے تمام طلبہ کے لیے کمپیوٹر کلاسز منعقد ہوئیں جب کہ گریڈز اسکول کی طالبات کے لیے خصوصی طور پر کوننگ کلاسز بھی منعقد ہوئیں جس کے ذریعے انھیں بعض اچھے اچھے کھانے پکانا سکھائے گئے۔



ان ہاؤس سمر ٹریننگ پروگرام



دارالمدینہ ٹریننگ اینڈ انسپکشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام دارالمدینہ کے پری پرائمری، پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کے ایڈمن اسٹاف کے لیے ان ہاؤس سمر ٹریننگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا اس ٹریننگ میں ایجوکیشن مینجرز اور ایڈمن اسٹاف کی سافٹ اسکولز اور انگلش کمیونیکیشن اسکولز کے حوالے سے تربیت کی گئی تاکہ دارالمدینہ کے تعلیمی و انتظامی امور میں مزید بہتری لائی جاسکے۔



رکن شوریٰ حاجی عبدالحییب عطاری کی دارالمدینہ ہیڈ آفس میں آمد

گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن حاجی عبدالحییب عطاری کی دارالمدینہ ہیڈ آفس تشریف آوری ہوئی، جہاں آپ نے دارالمدینہ کے مختلف شعبہ جات میں ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نگران شرعی امور (دارالمدینہ) مفتی کفیل رضا عطاری، سی-ای-او (دارالمدینہ) جناب غلام رسول شاہ اور دیگر اراکین مجلس (دارالمدینہ) بھی موجود تھے۔ رکن شوریٰ نے دارالمدینہ کے ٹیچرز، اسٹاف اور ایڈمن کے اسلامی بھائیوں کو تربیتی نکات بھی عطا فرمائے۔



رکن شوریٰ نے مستقبل کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دارالمدینہ کے ذریعے ابھی گویا چراغ جلا یا گیا ہے ہم نے اس چراغ کی روشنی کو دنیا بھر میں عام کرنا ہے۔

اگست میں دارالمدینہ میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمیاں

14 اگست کے موقع پر پاکستان بھر میں قائم دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے تمام کیمپسز میں ”جشن آزادی“ کی تقریب منائی جائے گی۔

اگست

09 اگست تا 14 اگست 2019ء کو دنیا کے خوش نصیب مسلمان حج کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ اس موقع پر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں طلبہ کو مختلف دلچسپ سرگرمیوں کے ذریعے حج کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔

محترم والدین / سرپرست،

بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے جہاں اساتذہ کرام کی کوششیں شامل ہیں وہاں اس عمل کو بحسن و خوبی جاری رکھنے میں آپ کا تعاون بھی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ امید ہے بچوں کی کردار سازی میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔

اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے



بچوں کو اسلامی معاشرے کا بہترین فرد بنانے کے لیے ان کی ”اچھی تربیت“ بے حد ضروری ہے۔ اچھی تربیت کی ایک صورت بچوں کی اچھے کاموں پر ”حوصلہ افزائی“ کرنا ہے۔ بچوں کی اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی ان کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اساتذہ و والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو اس طرح وہ تعلیمی میدان میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔

اپنے بچوں کی یادداشت میں اضافے کے لیے

وقتاً فوقتاً انھیں بادام کھلائیں کہ یہ قوتِ حافظہ کے لیے مفید ہے۔

مچھلی کا گوشت کھلائیں کہ یہ یادداشت میں اضافہ کرتا ہے۔

41 دن تک روزانہ 21 مرتبہ ”یا علیہم“ پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہار منہ پلائیے،

إن شاء اللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔



مسواک کے حیرت انگیز فوائد

• مسواک کھانا ہضم کرتی ہے۔



• مسواک عقل بڑھاتی ہے۔




• مسواک بلغم دور کرتی ہے۔



• مسواک بینائی تیز کرتی ہے۔



• مسواک پیٹھ مضبوط کرتی ہے۔



• مسواک حافظہ مضبوط کرتی ہے۔



• مسواک معدے کو درست رکھتی ہے۔



• مسواک منہ کے چھالوں کو دور کرتی ہے۔

